

دفتر برائے تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیشن  
جامعہ ملیہ اسلامیہ  
نئی دہلی

14 جولائی 2019

پریس ریلیز

## جامعہ ملیہ کے پروفیسر کا یونیورسٹی آف نارٹھ سماترا میں کلیدی خطبہ

ڈاکٹر محمد اسد الدین شعبہ انگریزی کے پروفیسر اور جامعہ ملیہ اسلامیہ وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر کے اکیڈمک اینڈ ریسرچ مشیر نے اسلامک یونیورسٹی آف نارٹھ سماترا میڈن کے فیکلٹی آف لٹریچر کی جانب سے منعقدہ دوسرے دوروزہ بین الاقوامی کانفرنس میں 3 جولائی کو 2019 کو ریسرچ پیراڈائم ان لنگویج، لیٹریچر اینڈ لنگویج ٹیچنگ ان دی انڈسٹریل ریوولوشن کے موضوع پر کلیدی خطبہ پیش کیا۔ کانفرنس کا افتتاحی اجلاس بال روم، مدنی ہوٹل، میڈان میں منعقد ہوا جس میں چین سمیت دتھائی لینڈ، ایران، تیونس، الجیریا جیسے آٹھ ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی۔ پروفیسر اسد الدین نے اپنے کلیدی خطبے میں ایشیاء میں انگریزی زبان و ادب میں تحقیق و تعلیم اور اس میں بدلاؤ کے متعلق گفتگو کی۔ پورے علاقے کے تاریخی نقشہ جات کی بنیاد پر اپنے خطبے میں انہوں نے کہا کہ کیسے انگریزی زبان و ادب نے اپنے پیر جمائے، کیسے اپنی اہمیت منوائی اور کس طرح عالمی پیمانے پر خود کو ثابت کیا اس پر گفتگو کی۔

انہوں نے بتایا کہ یہ بنیادی بدلاؤ اس بات پر منحصر تھے کہ کس ملک پر حکمرانی کا اثر کس طرح تھا۔ اس بدلاؤ کو اس بات نے بھی متاثر کیا کہ کئی ممالک میں ایک ہی زبان بولی جاتی تھی یا پھر کئی زبانیں۔ پروفیسر اسد الدین نے اس میدان میں جاری تبدیلی اور مستقبل کے امکانات پر اپنے خیالات رکھے۔

یونیورسٹی کے ریکٹر ڈاکٹر ایچ بینہار جلال الدین اور وائس ریکٹر نے پروفیسر اسد الدین کا استقبال کیا اور نے والے دنوں میں جامعہ کے ساتھ تعاون کے امکان پر غور و خوض کرنے کی بات کہی۔ اس یونیورسٹی کے فیکلٹی کء کئی ارکان جامعہ ملیہ اسلامیہ یا علی گڈھ مسلم یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ ہیں، ان سبھوں نے اس بات پر بھی اپنے شوق کا اظہار کیا کہ دونوں یونیورسٹی کے مابین طلباء اور فیکلٹی ممبران کا تبادلہ ہو۔ ریکٹر اور وائس ریکٹر نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر کے تئیں پروفیسر اسد الدین کے ساتھ اپنے نیک جذبات کا بھی اظہار کیا۔

احمد عظیم

عوامی تعلقات افسر اور میڈیا کو آرڈینیٹر  
جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی